

سبق -18، نماز: درود کے بعد کی دعا

1- عربی بول چال: جس طرح کا آپ تفضل کئے ہوئے اشارہ کریں اس طرح کا معنی لیا جاسکتا ہے۔

تَفَضَّلْ	مَعْنَا.	تَفَضَّلُوا.
براہ مہربانی آئیے، دیکھیے، بیٹھیے، چلیے، ---	ہمارے ساتھ	آئیے (آپ سب)، ---

2- گرامر: TPI کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے گرامر سیکھیے (سوچیے، دیکھیے، بولیے، بتائیے۔۔۔)

ضَرْبَ 58 (1c) اور ظَلَمَ 266 (1c) کے نیچے دیے گئے ۲۱ ام صیغوں کی پیکٹس کیجیے۔ آخری دو صیغے واحد مؤنث کے ہیں۔ ورنہ بک میں اس کا تفصیلی ٹیبل دیا گیا ہے۔ یہ ضَرْبَ، يَضْرِبُ، اِضْرِبْ یعنی باب ضَرْبَ (VT-1c) ہے۔ بنیادی گردان وہی فَعَلَ کی ہے، فرق صرف زبر، زیر یا پیش کا ہے۔ مثلاً یہاں ضَرْبَ، يَضْرِبُ، اِضْرِبْ کے بجائے ضَرْبَ، يَضْرِبُ، اِضْرِبْ ہے اور ظَلَمَ، يَظْلِمُ، اِظْلَمُ کے بجائے ظَلَمَ، يَظْلِمُ، اِظْلَمُ ہے۔ باب فَتْحَ اور باب نَصْرَ کے بعد باب ضَرْبَ تیسرا ام باب ہے۔

ضَرْبَ، ضَرْبُوا، ضَرَبْتَ، ضَرَبْتُمْ، ضَرَبْتُ، ضَرَبْتُمْ، يَضْرِبُ، يَضْرِبُونَ، تَضْرِبُ، تَضْرِبُونَ، اَضْرِبْ، اَضْرِبْ
اِضْرِبْ، اِضْرِبُوا، لَا تَضْرِبْ، لَا تَضْرِبُوا، ضَارِبٌ، مَضْرُوبٌ، ضَرْبٌ، (ضَرَبْتُ، تَضْرِبُ)

ظَلَمَ، ظَلَمُوا، ظَلَمْتَ، ظَلَمْتُمْ، ظَلَمْتُ، ظَلَمْتُمْ، يَظْلِمُ، يَظْلِمُونَ، تَظْلِمُ، تَظْلِمُونَ، اَظْلِمُ، اَظْلِمُ
اِظْلِمُ، اِظْلِمُوا، لَا تَظْلِمُ، لَا تَظْلِمُوا، ظَالِمٌ، مَظْلُومٌ، ظَلَمَ، (ظَلَمْتُ، تَظْلِمُ)

اہم نوٹ: اس کتاب کے آخر میں صفحہ نمبر A-9 کا ٹیبل ایک نظر دیکھ لیجیے۔

3۔ قرآن و حدیث سے: 3SP کے انداز میں پڑھیے۔

***** درود کے بعد کی دعاء *****				
اللَّهُمَّ	إِنِّي	أَعُوذُ	بِكَ	مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
اے اللہ	بیشک میں	میں پناہ میں آتا ہوں	تیری	قبر کے عذاب سے،
وَمِنْ عَذَابِ	جَهَنَّمَ	وَمِنْ فِتْنَةِ	الْمَحْيَا	وَالْمَمَاتِ
اور عذاب سے	جہنم کے،	اور فتنہ سے	زندگی	اور موت کے،
وَمِنْ شَرِّ	فِتْنَةِ	الْمَسِيحِ	الدَّجَالِ	
اور شر (برائی) سے	فتنہ کے	مسیح دجال کے		
***** درود کے بعد کی ایک اور دعاء *****				
اللَّهُمَّ	إِنِّي	ظَلَمْتُ	نَفْسِي	ظُلْمًا كَثِيرًا
اے اللہ	بے شک میں	(میں نے) ظلم کیا	اپنی جان پر	ظلم بہت زیادہ
وَلَا	يَعْفُرُ	الدُّنُوبَ	إِلَّا أَنْتَ	
اور نہیں	بخش سکتا	گناہوں کو	سوائے تیرے	
فَاعْفُرْ لِي	مَغْفِرَةً	مِنْ عِنْدِكَ	وَارْحَمْنِي	
بس بخش دے مجھ کو	اپنی خاص بخشش سے		اور مجھ پر رحم فرما	
إِنَّكَ أَنْتَ	الْغَفُورُ	الرَّحِيمُ		
بے شک تو ہی	بخشنے والا	بے حد رحم والا ہے۔		

اے اللہ بیشک میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور جہنم کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنہ سے، اور مسیح دجال کے فتنہ کے شر (برائی) سے۔

اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ اور تیرے سوا (کوئی) بھی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، بس مجھ کو بخش دے اپنی خاص بخشش سے اور مجھ پر رحم فرما۔ بے شک تو ہی بخشنے والا بے حد رحم والا ہے۔

ہوم ورک: سات آسان ہوم ورکس کو یاد رکھیے، ورک شیٹ کو پڑھیے، پیغام پر غور کرنے اور عمل کرنے کی مسلسل کوشش کیجیے۔

سبق-18 ، نماز: درود کے بعد کی دعا

1. عربی بول چال: ترجمہ کیجیے۔

تَفَضَّلُوا	مَعَنَا	تَفَضَّلْ

2. گرامر: ضَرْبَ⁵⁸ کے 21 صیغے لکھیے۔

3. قرآن وحدیث سے: ترجمہ کیجیے۔

***** درود کے بعد کی دعاء دعاء *****				
عَذَابُ	مَنْ	بِكَ	أَعُوذُ	إِنِّي
الْقَبْرِ	وَمَنْ	عَذَابُ	جَهَنَّمَ	وَمَنْ
وَالْمَمَاتِ	وَمَنْ	شَرَّ	فِتْنَةِ	الْمَسِيحِ
***** درود کے بعد کی ایک اور دعاء دعاء *****				
اللَّهُمَّ	إِنِّي	ظَلَمْتُ	نَفْسِي	ظُلْمًا
وَلَا	يَغْفِرُ	الدُّنُوبَ	إِلَّا أَنْتَ	فَاغْفِرْ لِي
مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ			وَارْحَمْنِي	
إِنَّكَ أَنْتَ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ		

سبق نمبر - 18: آج جو سبق آپ نے سیکھا ہے اس میں سے ان الفاظ کو لکھیے یا نشان دہی کیجیے جن کو آپ پہلے سے جانتے ہوں یا پچھلے اسباق میں آپ نے سیکھا ہو یا جن کے مادہ کے الفاظ اردو یا مانوس عربی الفاظ میں بھی وہی ہوں۔

Earlier occurrence / Mother-tongue or false link / Grammatical form/ ...	Root Letters	Meanings	Arabic	Earlier occurrence / Mother-tongue or false link / Grammatical form/ ...	Root Letters	Meanings	Arabic
مسح (وضو میں) مَسِيحٌ : جس کا مسح کیا گیا	م س ح	مسیح	الْمَسِيحُ		ف ذ ل	برائے مہربانی	تَفَضَّلْ
دجل و فریب	د ج ل	جھوٹا	الدَّجَالُ	نَعُوذُ : ہم پناہ مانگتے ہیں	ع و ذ	میں پناہ میں آتا ہوں	أَعُوذُ
ظَلَمَ، يَظْلِمُ، اِظْلَمَ، ظَالِمٌ، مَظْلُومٌ، ظُلْمٌ	ظ ل م	میں نے ظلم کیا	ظَلَمْتُ		ع ذ ب	عذاب	عَذَابٍ
کثرت	ك ث ر	بہت	كَثِيرًا	قُبُر. pl. قُبُور. sg. مَقْبَرَةٌ : دفنانے کی جگہ	ق ب ر	قبر	الْقَبْرِ
غَفَرَ، يَغْفِرُ، اِغْفِرُ، غَافِرٌ، مَغْفُورٌ، مَغْفِرَةٌ	غ ف ر	نہیں بخش سکتا	لَا يَغْفِرُ		ف ت ن	فتنہ، آزمائش	فِتْنَةٍ
دُنُوب. pl. ذُنُوب. sg.	ذ ن ب	گناہوں	الدُّنُوبِ	حَيَاة : زندگی	ح ي ي	زندگی	الْمَحْيَا
غَفُورٌ، شَكُورٌ، صَبُورٌ، ...	غ ف ر	بخشنے والا	الْغَفُورُ	مَوْت	م و ت	موت	وَالْمَمَاتِ

